



5th Pillar  
Family Takaful Limited

# نور

5th Pillar Family Takaful Umrah Noor Plan

ففتھ پلر فیملی تکافل عمرہ نور پلان



BankIslami

آئیے، ساتھ چلیں

# لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

Performing Umrah is a lifelong dream for millions of Muslims, irrespective of their age, beliefs, or backgrounds. But in Pakistan, the struggle of everyday life and economic pressures make many Muslims think that this is an unattainable goal. They become disheartened and write it off as something fantastical, not realising that with the right intention and the power of prayer, it can be in fact a dream fulfilled.

At 5th Pillar Family Takaful Limited, our goal is to become a ray of hope for those people. We want to rekindle their belief that, yes, with the right intention and the right actions, they too can reach the holy lands of Makkah and Medina. It is our dream to be your partner on this journey from the moment you make a true intention to the moment you return home safely.

We're not just a financial service provider but a completely integrated organization that makes your Umrah journey smooth and easy. We create a connected experience, from a straightforward savings & Takaful plan in Pakistan to transportation and accommodations in Saudi Arabia's holy cities, all guided by Shariah-compliant principles of Takaful.

In short, we aim to be a facilitating companion, helping you transform Umrah from merely a dream into an achievable goal and supporting you until you return home to celebrate with your family.

## Free Look Period

The Participant can cancel the membership within fourteen (14) days of the receipt of the membership Documents. In case of cancellation during this free look period (subject to Terms and Conditions), 5th Pillar Family Takaful Limited will refund the Contribution paid less the amount paid into the Individual Family Takaful Participant Fund (IFTF) as Takaful Contributions. Furthermore, 5th Pillar Family Takaful Limited reserves the right to deduct expenses incurred on medical examination of the Participant, if any, in connection with the issuance of the membership.

## Disclosure of Product

This is a Family Takaful product which has two distinct elements, i.e., Takaful Protection and Investment. The investment component is linked to the performance of the underlying assets under unit linked fund(s).

عمرہ کی ادائیگی ہر مسلمان کی ایک دل خواہش ہے، خواہ وہ کسی بھی عمر، عقیدے اور پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن پاکستان میں روز مرہ زندگی کے حالات اور معاشی دباؤ کی وجہ سے دل شکستہ ہو کر کئی مسلمان عمرہ کی ادائیگی کو ایک ناقابل حصول خواب سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن اخلاص نیت اور دعا کی طاقت سے یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوسکتا ہے۔

ففتہ پلر فیملی تکافل میں ہمارا مقصد ایسے افراد کے لیے اُمید کی کرن بننا ہے۔ ہم ان کا یہ یقین واپس لانا چاہتے ہیں کہ درست نیت اور بروقت فیصلوں سے یہ لوگ بھی مکہ اور مدینہ کی مقدس سرزمین پر قدم رکھ سکتے ہیں۔ عمرہ کا عزیمت کرنے سے قبل کر حفاظت گھر واپسی تک کے سفر میں آپ کا رفیق سفر بننا ہمارا خواب ہے۔

ہم صرف مالیاتی سروس ہی فراہم نہیں کرتے، بلکہ عمرہ کے تجربہ کو ہموار اور آسان بنانے کے لیے ایک مکمل نظام پیش کرتے ہیں۔ تکافل کے شرعی اصولوں کی روشنی میں ہمارے پاکستان میں خالص بچت اور تکافل پلان سے لے کر سعودی عرب کے مقدس شہروں میں رہائش اور سفر تک کا ایک مربوط نظام ترتیب دیا ہے۔

مختصر یہ کہ ہمارا مقصد ایک ایسا قابل بھروسہ رفیق سفر بننا ہے، جو نہ صرف عمرہ کو محض ایک خواب سے قابل حصول ہدف میں بدل دے، بلکہ عمرہ سے واپسی پر اپنے گھر والوں کے ساتھ عمرہ کی خوشی کو منانے تک آپ کا ساتھ دے۔

## غور و فکر کی مدت (فری لک پیریڈ)

شریک تکافل، رکنیت کی دستاویزی (ایمر ڈی) موصول ہونے کے 14 دن کے اندر اندر اپنی رکنیت کو منسوخ کرسکتا ہے۔ اس دورانیے میں رکنیت ختم کروانے کی صورت میں ففتہ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ (شرائط و ضوابط کے مطابق) اس زینتعاون سے تکافل عطیہ کے طور پر انفرادی پی ٹی ایف میں جانے والی رقم منہا کر کے باقی رقم واپس کردے گا۔ اس کے علاوہ، رکنیت کے اجراء کے حوالے سے اگر کوئی طبی معائنہ ہوا ہو تو ففتہ پلر فیملی تکافل کو یہ اخراجات بھی منہا کرنے کا حق ہے۔

## پراڈکٹ کی وضاحت

یہ ایک فیملی تکافل پراڈکٹ ہے، جس کے دو بنیادی عناصر ہیں، یعنی: تکافل کا تحفظ اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری کا عنصر یونٹ لنکڈ فنڈ میں موجود اثاثہ جات کی کارکردگی سے مشروط ہے۔

## About 5th Pillar Family Takaful Limited

5th Pillar Family Takaful Limited is a new entrant into the family takaful sector of Pakistan which is supported by eminent business houses from Kuwait and Pakistan.

### Our salient features include:

- Largest FDI in Takaful sector of Pakistan
- 68% shares of 5th Pillar Takaful owned by foreign shareholders and the remaining 32% by Pakistani interests
- Largest initial paid up capital of PKR 2 billion in the history of Pakistan's takaful sector
- Highest initial credit rating "A+ Stable Outlook" from Pakistan Credit Rating Agency
- Licensed by the SECP to underwrite Shariah-Compliant Family Takaful business in Pakistan
- State-of-the-art IT platform to support business operations throughout the membership lifecycle
- Upcoming customer engagement mobile app/web portal to provide 24/7 information and assistance to members from the comfort of their homes

## Our Sponsors

**Kuwait International Investment Holding Company (KIIC)** is a leading investment company headquartered in Kuwait City, Kuwait. Founded in 1973, KIIC is owned by leading business houses of Kuwait including Government of Kuwait-owned Kuwait Investment Authority (KIA) which owns 31.90% shares of KIIC.

**IFA Group Kuwait** is a Kuwait-based company incorporated in 1974. IFA Group is a multi-billion US Dollars consortium of 10 listed Kuwaiti companies with diverse investments in Takaful, Financial Services, Consumer Finance, Technology, Food Services, Hospitality and Real Estate. The group owns multiple hotels in the Middle East, Africa, Europe and USA consisting of about 11,500 five star room keys in the four continents providing unmatched experience in hospitality sector in particular.

## ففتھ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ کا تعارف

ففتھ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان کے فیملی تکافل کے شعبہ میں ایک نیا اضافہ ہے، جسے کویت اور پاکستان کے ممتاز کاروباری اداروں کا تعاون حاصل ہے۔

### ہماری چند نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں:

- پاکستان کے شعبہ تکافل میں برہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے اعتبار سے سب سے بڑی کمپنی۔
- ففتھ پلر تکافل کے 68% حصص غیر ملکی شیئر ہولڈرز کی ملکیت ہیں جبکہ باقی 32% پاکستانی شیئر ہولڈرز کی توجہ کا مرکز ہیں۔
- پاکستان کے شعبہ تکافل کی تاریخ میں 2 ارب روپے کا سب سے بڑا ابتدائی پیڈ اپ کیپیٹل۔
- پاکستان کی کریڈٹ رینٹنگ ایجنسی کی جانب سے سب سے بڑی ابتدائی "A+ مستحکم آؤٹ لُک" کی کریڈٹ رینٹنگ۔
- SECP کی جانب سے پاکستان میں شریعہ سے ہم آہنگ فیملی تکافل بزنس انڈر رائٹ کرنے کے لیے لائسنس یافتہ۔
- رکنیت کے مکمل دولتیہ میں بزنس کے انتظامات کو ہموار رکھنے کے لیے اپنی نوعیت کا بہترین آن ٹی پلیٹ فارم۔
- کسی بھی وقت گھر بیٹھ معلومات اور تعاون حاصل کرنے کے لیے موبائل ایپلیکیشن، ویب پورٹل کا عنقریب آغاز۔

## ہمارے اسپانسرز

**کویت انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہولڈنگ ایجنسی (KIIC)** ایک معروف سرمایہ کاری کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر کویتی ریاست کے شہر کویت میں واقع ہے۔ اس کمپنی کا قیام 1973 میں عمل میں آیا، کویت کے کئی ممتاز کاروباری اداروں کے پاس KIIC کی مشترکہ ملکیت ہے، جس میں کویتی حکومت کی ملکیتی کمپنی "کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی (KIA)" 31.90% حصص کی مالک ہے۔

**آئی ایف اے (IFA) گروپ کویت** بھی ایک کویتی کمپنی ہے اور 1974 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ IFA گروپ 10 کویتی لسٹڈ کمپنی کے اشتراک سے وجود میں آئی ہے، جن کی تکافل، میزبانی، مالیاتی خدمات اور رئیل اسٹیٹ کے شعبوں میں کئی بلین یو ایس ڈالر پر مشتمل سرمایہ کاری ہے۔ اس گروپ کے چار براعظموں یعنی مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور متحدہ امریکہ میں مختلف ہولڈرز تقریباً 11500 فائینو اسٹار کمرے ہیں جو میزبانی کے اس شعبہ میں مثال خدمات فراہم کر رہے ہیں۔



**5th Pillar Holding DIFC Dubai, UAE** is a special purpose company which has been established by renowned business houses from Kuwait to develop Takaful companies and Umrah services value chain in major Muslim countries. Starting with Pakistan, the company plans to set up similar operations in Bangladesh, Indonesia, Turkey and Egypt.

**Muhammadi Family & Associates** includes the Muhammadi Family who have been doing business in the insurance sector across three generations in Pakistan.

This significant financial backing has allowed the company to invest in cutting-edge technology and develop innovative products in order to provide unparalleled customer service to its clients. Our reputed sponsors possess the necessary financial resources and expertise to deliver on their commitment to facilitate Umrah services for our members from Pakistan and from other selected countries with ease and comfort.

## Value Chain

Our sponsors have the noble vision of providing a complete solution to our members with the innovative Shariah-compliant product "5th Pillar Family Takaful Umrah Noor Plan" supported with "Complete Umrah Services Value Chain" which will provide our participants with a peaceful and highly supervised experience in Pakistan and in Saudi Arabia with the help of subsidiary/associate companies summarized as follows:

5th Pillar Family Takaful Limited, Pakistan will provide Protection and Savings Takaful Plans to assist members in achieving their need-based targeted savings for performing Umrah.

5th Pillar Travel Private Limited (i.e. associated company of 5th Pillar Family Takaful Limited) has been incorporated and registered with the SECP, will act as a Centre of Excellence to make necessary arrangements to facilitate our members in Pakistan and in Saudi Arabia. 5th Pillar Travel Private Limited will acquire the necessary services from various Hajj Group Organizers (HGOs) approved by the Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony (MORA & IH), Govt. of Pakistan and collaborate with 5th Pillar Arabia Limited to organize a comfortable experience for Members from Umrah Registration, travel to Saudi Arabia and return back to Pakistan after performing Pilgrimage as detailed in "How it Works?" hereinafter

**ففتھ پلر ہولڈنگ DIFC دبئی، یو اے ایہ کویت کے معروف کاروباری اداروں کی جانب سے خصوصی مقصد کے تحت بنائی گئی کمپنی ہے تاکہ کثیر مسلم آبادی والے ممالک میں دیگر کمپنیز اور عمرہ کی خدمات کے حوالے سے ایک منظم ترتیب تشکیل دی جاسکے۔ پاکستان سے آغاز اور عمرہ کی سہولیات کے ساتھ اسی طرح کے انتظامات بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ترکیہ اور مصر میں بھی شروع کیے جائیں گے۔**

**محمدی فیملی اینڈ ایسوسی ایٹس** اس میں محمدی فیملی بھی شامل ہے جو تین نسلوں سے پاکستان میں انشورنس سیکٹر کے بزنس میں پیش پش ہے۔

اس اہم مالیاتی تعاون کی بدولت کمپنی اپنے صارفین کو جدید ٹیکنالوجی اور پراڈکٹ کے ذریعے مثال خدمات فراہم کرنے کے قابل ہو سکی ہے۔ ہمارے معزز اسپانسرز کے پاس ہمارے شرکاء تکافل کے لیے پاکستان اور دیگر منتخب ملکوں سے انتہائی سہولت اور آسانی کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے حوالے سے تمام ضروری مالی وسائل اور تجربہ موجود ہے۔

## مکمل مرتب نظام

ہمارے اسپانسرز کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ اپنے شرکاء کو شریعت سے ہم آہنگ، جدید اور اپنی نوعیت کی منفرد پراڈکٹ "ففتھ پلر فیملی تکافل عمرہ نور پلان" کے ذریعے "مکمل مرتب نظام" کے تعاون سے مکمل حل پیش کیا جائے، جو ہمارے شرکاء تکافل کو پاکستان اور سعودی عرب میں اپنی متعلقہ کمپنیز کے تعاون سے پُر سکون اور انتہائی منظم تجربہ کے ساتھ خدمات فراہم کریں گے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ففتھ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان، تحفظ اور بچت پلان پیش کرے گا، تاکہ شرکاء تکافل عمرہ کی ادائیگی کے حوالے سے کی گئی بچت کا ہدف حاصل کر سکیں

ففتھ پلر پرائیویٹ لمیٹڈ، (جو کہ ففتھ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ کی متعلقہ کمپنی ہے) SECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سعودی عرب میں اپنے شرکاء کو ضروری خدمات فراہم کرنے کے مرکز کے طور پر بھی کام کر رہی ہے۔ ففتھ پلر ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ شرکاء کو آرام دہ تجربہ فراہم کرنے کے لیے وزارت برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، حکومت پاکستان اور مختلف حج گروپ آرگنائزرز (HGOs) سے ضروری خدمات حاصل کر کے ففتھ پلر عربیہ لمیٹڈ کے ساتھ اشتراک کیا ہے، ان خدمات میں عمرہ کی رجسٹریشن، سعودی عرب کا سفر اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد پاکستان واپسی شامل ہے، اس کی تفصیل "یہ کس طرح کام کرتا ہے؟" میں بیان کی گئی ہے۔



## 5th Pillar Family Takaful Umrah Noor Plan

Umrah is a cherished dream for countless Muslims, transcending age and circumstance. Yet in Pakistan, daily challenges and financial pressures often make this dream feel out of reach. Through our 5th Pillar Family Takaful Umrah Noor Plan, we guide you from the moment you make the intention until you return home, ensuring every step of your journey is smooth and secure.

Our End-to-End Value Chain offers a seamless experience, from structured savings, Takaful coverage to travel and accommodation arrangements in the holy cities of Makkah and Medina. All of this is managed under Shariah-compliant principles, transforming your dream of Umrah into an achievable reality,

### How It Works?

Once the participant enrolls with 5th Pillar Family Takaful Limited, based on the projected economy Umrah cost, his/her savings would be invested by our financial experts maintaining Takaful protection under the supervision of our Shariah Advisor. In the event of unfortunate death of the participant during membership period, higher of face value or cash value shall be payable.

Upon maturity of the membership, the Participant shall have the following two options based on the projected Umrah cost:

#### Option 1 - Membership Maturity Benefit

Participant/member may withdraw the maturity value of the membership.

#### Option 2 - Umrah Facilitation Services

To embark on the journey to perform Umrah, 5th Pillar Travel Private Limited and 5th Pillar Arabia Limited (Registered in Saudi Arabia), associated companies of 5th Pillar Family Takaful Limited, have developed a complete end to end Umrah Services value chain in Pakistan and in Saudi Arabia.

You have complete freedom to perform Umrah through the above mentioned **Value Chain** or any other Umrah operator/facilitator of your choice.

## ففتہ پرفیمیلی تکافل عمرہ نور پلان

عمرہ کے شمار مسلمانوں کے لیے ایک محبوب خواب ہے، جو عمر اور حالات کی قیود سے بالاتر ہے۔ تاہم، پاکستان میں روزمرہ کی مشکلات اور مالی دباؤ کی وجہ سے یہ خواب اکثر ناقابل حصول محسوس ہوتا ہے۔ ففتہ پلر فیمیلی تکافل عمرہ نور پلان کے ذریعے، ہم آپ کی نیت کے لمحے سے لے کر آپ کی گھر واپسی تک ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتے ہیں، تاکہ آپ کا سفر پرسکون اور محفوظ رہے۔

ہمارا مکمل مرتب نظام آپ کو ایک بے مثال سہولت فراہم کرتا ہے، جس میں منظم بچت، تکافل کوریج، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہروں میں سفری و رہائشی انتظامات شامل ہیں۔ یہ تمام خدمات شریعت کے اصولوں کے مطابق فراہم کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کا عمرہ کا خواب ایک قابل حصول حقیقت میں بدل سکے۔

### یہ پلان کس طرح کام کرتا ہے؟

جیسے ہی شریک تکافل کا ففتہ پلر فیمیلی تکافل لمیٹڈ میں اندراج ہوگا، ہمارے معاشی ماہرین کی جانب سے ان کی بچت کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ ہمارے شریعہ ایڈوائزر کی زیر نگرانی تکافل تحفظ کا انتظام کیا جائے گا۔ رکنیت کی مدت کے دوران شریک تکافل کی ناگہانی وفات کی صورت میں نقد مالیت (کیش ویلیو) یا زرتحفظ (سمر کورڈ) میں سے جو زیادہ ہو گی وہ ادا کی جائے گی۔

رکنیت کی تکمیل کی صورت میں شریک تکافل کے پاس متوقع عمرہ کے اخراجات کی بنیاد پر دو اختیارات ہوں گے:

#### پہلا اختیار - رکنیت کے تکمیلی فوائد

شریک تکافل رکن اپنی رکنیت کی تکمیلی مالیت وصول کرسکتا ہے۔

#### دوسرا اختیار - عمرہ سہولت کی خدمات

عمرہ کے مقدس سفر کا آغاز کرنے کے لیے ففتہ پلر فیمیلی تکافل کی متعلقہ کمپنیز، ففتہ پلر ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ اور ففتہ پلر عربیہ لمیٹڈ (جو سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہے) نے پاکستان اور سعودی عرب میں عمرہ کی خدمات کے حوالے سے ایک مکمل نظام ترتیب دیا ہے۔

آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ مذکورہ بالا نظام کے تحت عمرہ ادا کریں یا کسی اور آپریٹر کا انتخاب کریں۔



## Key Benefits

### Death Benefit:

In the event of death of the participant during membership period, higher of face value or cash value shall be payable

### Maturity Benefit:

Upon maturity, the participants shall have the following options:

- Withdraw their accrued cash value on the date of maturity; or
- Utilize the accrued cash value to perform Umrah by availing the services of 5th Pillar Travel (Private) Limited or any other Umrah operator of their choice.

### Surrender Value:

Participant may surrender his/her membership at any time during membership term and avail 100% of prevailing basic cash value.

## Options for Revision in Contribution Amount

This plan offers the participants flexibility to adjust the contribution amount during membership period through the following options:

**Indexation:** To cover the impact of inflation, this option provides opportunity to increase contribution amount and/or Takaful benefits by 5%, 10% or 15% on annual basis.

**Endorsement:** A participant can increase or decrease his/her annual contribution by any percentage he/she wants, effective from next anniversary date.

**Top-up:** Any additional amount can be deposited in the membership plan anytime, after paying applicable top-up charges.

## Unit Pricing Methodology

The price per unit of each fund is determined using the forward pricing methodology. The unit price is determined on a daily basis. Each regular contribution and top-up contribution, after deduction of allocation fee and top-up charge respectively, is used to acquire units in the PIF in one or more funds.

## اہم فوائد

### وفات کی صورت میں ملنے والے فوائد:

رکنیت کی مدت کے دوران شریک تکافل کی وفات کی صورت میں نقد مالیت یا زرنفعہ میں سے جو زیادہ ہو گی ادائیگی کی جائے گی۔

### تکمیلی فوائد:

رکنیت کی تکمیل کے موقع پر شریک تکافل کے پاس درج ذیل دو اختیارات ہیں:

- تکمیل کی تاریخ تک نقد مالیت کے طور پر موجود رقم کی وصولی۔
- فتنہ پلر ٹریول لمیٹڈ یا اپنی مرضی کے کسی اور عمرہ آپریٹر کی خدمات حاصل کر کے عمرہ کی ادائیگی کے لیے حاصل شدہ نقد مالیت کا استعمال کر سکتا ہے۔ مالیت وصول کر کے اپنی رکنیت سے دستبردار ہو سکتا ہے۔

### دستبرداری مالیت:

رکنیت کی مدت کے دوران شریک تکافل کسی بھی وقت موجودہ بنیادی نقد مالیت وصول کر کے اپنی رکنیت سے دستبردار ہو سکتا ہے۔

## زرنفعہ کی رقم میں نظر ثانی کا اختیار

اس پلان میں شریک تکافل کے پاس رکنیت کی مدت کے دوران اپنے زرنفعہ کی مقدار میں ایڈجسٹمنٹ کے درج ذیل اختیارات ہیں:

**انڈیکسیشن (اضافہ):** مہنگائی کے اثر کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ آپشن سالانہ بنیاد پر زرنفعہ کی رقم تکافل فوائد کی مقدار میں 5%، 10% یا 15% تک اضافہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔

**توثیق:** شریک تکافل اپنی مرضی سے کسی بھی شرح کے اعتبار سے سالانہ زرنفعہ میں اضافہ یا کمی کر سکتا ہے، جس کا اطلاق رکنیت کی اگلے سال کو سے ہوگا۔

**ٹاپ اپ:** ٹاپ اپ کے قابل اطلاق چارجز ادا کر کے کسی بھی وقت اپنی رکنیت میں اضافی رقم جمع کروائی جاسکتی ہے۔

## یونٹس کی پرائسنگ کا طریقہ کار

کسی بھی فنڈ میں موجود ہر یونٹ کی قیمت کا تعین فارورڈ پرائسنگ کے طریقہ کار کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یونٹس کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ہر باقاعدہ زرنفعہ اور ٹاپ اپ زرنفعہ سے بالترتیب ایلوکیشن فیس اور ٹاپ اپ چارجز منہا کر کے بعد بچ جانے والا زرنفعہ پی آئی ایف کے ایک یا زیادہ فنڈ کے یونٹس حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

Plan Specifications and Charges			پلان کی خصوصیات اور چارجز		
Eligible Age اہلیت کی عمر	Minimum Entry Age: 18 Years Maximum Entry Age: 55 Years Maximum Age at Maturity: 70 Years		رکنیت کے وقت کم سے کم عمر 18 سال رکنیت کے وقت زیادہ سے زیادہ عمر 55 سال تکمیل کے وقت زیادہ سے زیادہ عمر 70 سال		
Plan Term پلان کی مدت	Minimum Term: 5 Years Maximum Term: 15 Years		کم سے کم مدت 5 سال زیادہ سے زیادہ مدت 15 سال		
Financial Protection مالی تحفظ	Minimum Cover Multiple : 5 Maximum Cover Multiple: 5		کم سے کم تحفظ : 5 گنا زیادہ سے زیادہ تحفظ : 5 گنا		
Modes of Contribution زرتعاون کی ادائیگی کا دورانیہ	You have the convenience to make contributions on yearly, half yearly, quarterly and monthly basis.		آپ اپنا زرتعاون اپنی سہولت کے مطابق سالانہ، ششماہی، سہ ماہی یا ماہانہ بنیاد پر ادا کر سکتے ہیں۔		
Allocations تخصیص	Membership Year رکنیت کا سال	1	2	3	4 +
	Allocation % تخصیص کی شرح	75%	90%	100%	100%
Allocation Fee (Part of Wakalat-ul-Istismar) ایلوکیشن فیس (وکالۃ الاستثمار کا حصہ)	Membership Year رکنیت کا سال	1	2	3	4 +
	Allocation Fee تخصیص کی شرح	25%	10%	0%	0%
Membership Administration Fee (Part of Wakalat-ul-Istismar) رکنیت کی انتظامی فیس (وکالۃ الاستثمار کا حصہ)	Annual Membership fee of PKR 1,800 will be charged on monthly basis (PKR 150/Month) as administration fee and will increase by 8% per annum from second year onwards.		سالانہ رکنیت کی فیس مبلغ 1,800 روپے ماہانہ کی بنیاد پر انتظامی فیس کی مد میں (150 روپے) چارج ہونگے اور دوسرے سال کے آغاز سے 8% سالانہ یہ فیس بڑھا کرے گی۔		
Bid Offer Spread (Part of Wakalat-ul-Istismar) قیمت خرید اور فروخت کے درمیان کا فرق (وکالۃ الاستثمار کا حصہ)	5% on amount allocated to Participant's Investment Fund (PIF)		شریک تکافل کے سرمایہ کاری فنڈ میں جمع کی گئی رقم کا 5%		
Wakalat-ul-Istismar Fee (Investment Management Fee) (Part of Wakalat-ul-Istismar) وکالۃ الاستثمار کی فیس (سرمایہ کاری کے انتظام کی فیس) (وکالۃ الاستثمار کا حصہ)	Investment Management Charge (IMC) would be levied as 0.167% per month of the fund value deducted each time the fund is valued.		ہر مرتبہ جب بھی فنڈ کی مالیت لگائی جائے گی تو ماہانہ بنیاد پر فنڈ کا 0.167% سرمایہ کاری کے انتظامی چارجز لاگو ہوں گے۔		

Sample Illustration		فرضی خاکہ				
Name	Mr. Ahmad	نام جناب احمد				
Age	35 years	عمر 35 سال				
Plan Term	10 years	پلان کی مدت 10 سال				
Contribution Term	10 years	زرتعاون کی مدت 10 سال				
Commencement Year	2025	آغاز کا سال 2025				



Member- ship Year رکنیت کا سال	Cumulative Main Plan Basic Contribution Paid اصل پلان کا ادا کردہ بنیادی زر تعاون	Basic Contribution بنیادی کنٹریبیوشن	Allocated To Fund فند میں مختص کردہ	9% P.A. Unit Growth Rate/Rate of Return 9% سالانہ یونٹ گروتھ ریٹ/نفع کی شرح		13% P.A. Unit Growth Rate/Rate of Return 13% سالانہ یونٹ گروتھ ریٹ/نفع کی شرح	
				Surrender Value دستبرداری مالیت	Main Plan Death Benefit بنیادی پلان کے فوائد بصورت فوتگی	Surrender Value دستبرداری مالیت	Main Plan Death Benefit بنیادی پلان کے فوائد بصورت فوتگی
1	59,800	59,800	44,850	43,382	299,000	45,011	299,000
2	119,600	59,800	53,820	98,494	299,000	103,962	299,000
3	179,400	59,800	59,800	163,401	299,000	175,517	299,000
4	239,200	59,800	59,800	232,725	299,000	254,773	299,000
5	299,000	59,800	59,800	306,791	306,791	342,521	342,521
10	598,000	59,800	59,800	756,758	756,758	940,961	940,961

\*This is an expected rate of return.

\*یہ منافع کی متوقع شرح ہیں

## Riders' Descriptions

You have further flexibility to customize your membership's total coverage by adding the following optional riders. The level contribution of these riders will be charged in addition of the main plan contribution. The riders can be attached at the time of membership acquisition or at anniversary of the Membership.

### Accidental Death Benefit (ADB):

This rider pays a lump sum amount in case of accidental death of the covered person.

### Accidental Death & Dismemberment Benefit (ADDB):

This rider pays a lump sum amount in case of accidental death of the covered person or if due the accident, causing dismemberment to the covered person.

### Family Income Benefit (FIB):

This rider pays the family of the covered person a Regular Monthly benefit up to end of Term of Membership in case of the covered persons demise during the Membership life. The Family Income Benefit ("FIB") is payable for the entire FIB term.

### Critical Illness (CI):

The Critical Illness sum covered is payable to the participant in case if he/she is diagnosed as having one of the specified critical illnesses diseases (i.e Cancer, Cardiac, Stroke), during the in-force term of this rider.

## ضمنی فوائد کی وضاحت

آپ درج ذیل اختیاری ضمنی فوائد کے ذریعے اپنے تکافل تحفظ کی مقدار میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ ضمنی فوائد منتخب کرنے کی صورت میں بنیادی زریعہ تعاون کے علاوہ زریعہ تعاون کی ایک مخصوص مقدار مزید ادا کرنی ہوگی۔ یہ ضمنی فوائد رکنیت کے حصول کے وقت یا رکنیت کی سالگرہ کے موقع پر بنیادی پلان کے ساتھ منسلک کیے جاسکتے ہیں۔

### حادثاتی وفات کی صورت میں ملنے والے فوائد (ADB):

اس ریکر کے تحت شریک تکافل کی حادثاتی وفات کی صورت میں یکمشت رقم ادا کی جائے گی۔

### حادثاتی وفات اور معذوری کی صورت میں ملنے والے فوائد (ADDB):

اگر کسی حادثہ کی وجہ سے شریک تکافل کی وفات ہو جائے یا شریک تکافل معذور ہو جائے تو اس فائدہ کے تحت یکمشت رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔

### فیملی انکم کے فوائد (FIB):

اگر رکنیت کے دوران میں شریک تکافل کی وفات ہو جائے تو شریک تکافل کی فیملی کو رکنیت کے اختتام تک ماہانہ بنیاد پر فوائد ادا کیے جائیں گے۔ فیملی انکم بینیفٹ کا فائدہ پوری FIB مدت کے لئے قابل ادائیگی ہوتا ہے۔

### موذی امراض کی صورت میں ملنے والے فوائد (CI):

رکنیت کی مدت کے دوران اگر شریک تکافل کو کسی ایسی بیماری کی تشخیص ہو جائے جو تکافل آپریٹر کی طرف سے طے شدہ مخصوص امراض (مثلاً کینسر، دل کا مرض، اسٹروک) کی فہرست میں شامل ہے تو ایسی صورت میں اس ضمنی فائدہ کے تحت شریک تکافل کو تکافل تحفظ کی رقم فراہم کی جائے گی۔



## Waiver of Contribution - Death (WOC):

In case of an event causing the Death of the participant, the remaining contributions after the date of event up to the end of contribution paying term would be paid by the Individual Family Takaful Participants' Fund 'IFTPF' of 5th Pillar Family Takaful.

## Waiver of Contribution - Disability (WOC):

In case of an event causing the Permanent Total Disability due to Accident & Sickness of the participant, and participant is not able to follow his/her occupation or any other occupation, the remaining contributions after the date of event up to the end of contribution paying term would be paid by the Individual Family Takaful Participants' Fund 'IFTPF' of 5th Pillar Family Takaful. The waiting period of 180 days shall apply.

## Investment Strategy

5th Pillar Family Takaful Limited provides the following unit-linked investment strategies for its Participants based on their risk appetite.

## Investments Funds

Following three types of investment schemes/sub-funds of Participant's Investment Fund based on the risk profile are proposed to be structured for the respective sub-funds after due approvals.

**5th Pillar Aggressive Fund:** This fund will invest the participants funds in financial instruments with High risk which includes shariah compliant equities.

**5th Pillar Balanced Fund:** This fund will invest the participants funds in financial instruments with risk like equities as well as riskless instruments like Sukuku.

**5th Pillar Conservative Fund:** This fund will invest the contributions in shariah compliant and riskless instruments like Sukuku.

## وفات کی صورت میں زرتعاون کی ادائیگی سے استثناء:

شریک تکافل کی ناگہانی وفات کی صورت میں وفات کی تاریخ کے بعد سے ادائیگی کی مدت تک تمام قابل اداء زرتعاون فتنہ پلر فیملی تکافل کے انفرادی فیملی تکافل فنڈ برائے شریک تکافل کی جانب سے ادا کیے جائیں گے۔

## معذوری کی صورت میں زرتعاون کی ادائیگی سے استثناء:

اگر کسی بیماری یا حادثہ کی وجہ سے شریک تکافل مستقل اور مکمل طور پر معذور ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پیشہ یا کوئی اور پیشہ جاری نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں واقعہ کے بعد سے ادائیگی کی مدت تک تمام قابل اداء زرتعاون فتنہ پلر فیملی تکافل کے انفرادی فیملی تکافل فنڈ برائے شریک تکافل سے ادا کیے جائیں گے۔ اس فائدے کے لیے 180 دن انتظار کی مدت کا اطلاق ہوگا۔

## سرمایہ کاری کی حکمت عملی

فتنہ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ اپنے شریک تکافل کو ان کے رسک کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کی درج ذیل حکمت عملی پیش کرتا ہے۔

## انویسٹمنٹس فنڈز

رسک پروفائل پر مبنی درج ذیل تین اقسام کی انویسٹمنٹ اسکیمز/پارٹیسپینٹس انویسٹمنٹس فنڈز ذیلی فنڈز کو درکار منظور یوں کے بعد متعلقہ سب فنڈز کیلئے تشکیل دیا جانا تجویز کیا گیا ہے

**فتنہ پلر جارحانہ فنڈ:** یہ فنڈ شریک تکافل کے فنڈ کی سرمایہ کاری زیادہ رسک والے مالیاتی مواقع میں کرتا ہے، جس میں شریعہ کمپلائنٹ شیئرز شامل ہیں۔

**فتنہ پلر متوازن فنڈ:** یہ فنڈ شریک تکافل کے فنڈ کی سرمایہ کاری رسک اور بغیر رسک والے فنڈز دونوں میں کرتا ہے، جیسا کہ شیئرز اور صکوک۔

**فتنہ پلر محتاط فنڈ:** یہ فنڈ شریک تکافل کے زرتعاون کی سرمایہ کاری صرف بغیر رسک والے مواقع مثلاً صکوک میں کرتا ہے۔

محتاط/مئی مارکیٹ	Conservative/Money Market	متوازن	Balanced	جارحانہ	Aggressive
0%	0%	0% - 45%	0% - 90%	0%	0%
100%	100%	55% - 100%	10% - 100%	10%	10%
Risk Profile					
کم	Low	معتدل	Medium	زیادہ	High
Risk Profile					
کم	Low	معتدل	Medium	زیادہ	High
Risk Profile					
کم	Low	معتدل	Medium	زیادہ	High

## Disclaimers:

This product is underwritten by 5th Pillar Family Takaful Limited.

The product is not guaranteed nor covered by any of the other Group Companies of 5th Pillar Family Takaful Limited and they are not liable in any context.

The past performance of funds is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the funds and neither 5th Pillar Family Takaful Limited will incur any liability for the same.

A personalized illustration of benefits will be provided to the customer. Please refer to the notes in the illustration for detailed understanding of the various terms and conditions.

The investment risk shall be borne by the Participant and actual maturity or surrender values may be lower or higher than the projected figures.

This product is underwritten by 5th Pillar Family Takaful Limited, it's not guaranteed or covered by Bank Islami or its affiliates, and bank is acting as a distributor only.

## Frequently Asked Questions (FAQs):

### Why 5th Pillar Family Takaful Umrah Noor Plan?

5th Pillar Family Takaful Umrah Savings Plan is the structured Takaful solution to fulfil your dream of performing Umrah. This plan has both Takaful Protection and Savings components and helps you to achieve this goal and embark on the spiritual journey of Umrah through its associate companies as per your preference.

### What is a Unit-Linked product?

Unit-Linked products mean Investment-Linked Takaful products offering Family Takaful coverage coupled with savings component where under the savings component is managed through operating Unit-Linked investment funds.

### How will my investment be managed?

The deposited amount will be invested according to Shariah principles in different avenues within the country. The Shariah advisor of 5th Pillar Family Takaful will approve all the modes of investment.

### Does the projected amount include all expenses of Umrah?

Yes, the projected amount of economy Umrah based on inflation and forecasted foreign exchange rates has been estimated taking into account all expenses of Umrah including Tickets, Visa and Accommodations, Transportation and Food Catering. However, actual cost of Umrah may vary each year based on various factors like inflation, taxes, exchange rates, etc. In case there's a shortfall, if any, between the price of Umrah Package and the maturity proceeds of the Membership, it will be borne by the participant.

## وضاحت:

یہ پراڈکٹ فتنہ پلر فیملی تکافل کی جانب سے پیش کی جارہی ہے۔

اس پراڈکٹ کے حوالے سے فتنہ پلر کی دیگر گروپ کمپنیز کی کوئی گارنٹی یا ضمانت نہیں ہے اور وہ کسی بھی طور سے اس پراڈکٹ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

فنڈز کی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کی نمائندگی نہیں کرتی۔ کسی بھی قسم کی پیشگوئی کا مستقبل میں اسی طرح ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی فتنہ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ اس کارکردگی کی ذمہ دار شمار ہوگی۔

خصوصی طور پر تیار کردہ فوائد کا خاکہ شریک تکافل کو فراہم کیا جائے گا۔ مختلف شرائط و ضوابط کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ازراہ کرم اسٹریٹجک نوٹس ملاحظہ فرمائیں۔

سرمایہ کاری کا ریسک شریک تکافل کو خود ہی برداشت کرنے ہوں گے، تکمیلی مالیت یا دستبرداری مالیت بیان کردہ اعداد سے کم یا زیادہ ہوسکتی ہے۔

یہ پراڈکٹ فتنہ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ کی طرف سے پیش کی جارہی ہے اور بینک اسلامی یا اس کے متعلقہ اداروں کی طرف سے اس پراڈکٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بینک صرف ڈسٹریبیوٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔

## اکثر پوچھے گئے سوالات:

### فتنہ پلر فیملی تکافل عمرہ نور پلان کا انتخاب کیوں؟

فتنہ پلر فیملی تکافل عمرہ نور پلان، عمرہ کی ذمہ داری کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ تکافل حل ہے۔ اس پلان میں تکافل تحفظ اور سرمایہ کاری دونوں عناصر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ پلان آپ کی چاہت کے مطابق اپنی متعلقہ کمپنیز کے ذریعہ عمرہ کے روحانی سفر کے آغاز اور اس ہدف کے حصول میں معاونت فراہم کرتا ہے۔

### یونٹ لنکڈ پراڈکٹ کسے کہتے ہیں؟

یونٹ لنکڈ پراڈکٹ سے مراد سرمایہ کاری سے منسلک وہ تکافل پراڈکٹ ہیں جو تکافل تحفظ کے ساتھ بچت کی سہولت بھی فراہم کرتی ہیں، بچت کا انتظام یونٹ لنکڈ سرمایہ کاری فنڈ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔

### میری سرمایہ کاری کا انتظام کس طرح کیا جاتا ہے؟

جمع کردہ رقم کی سرمایہ کاری ملک کے اندر شرعی اصولوں کے مطابق مختلف مواقع میں کیا جاتا ہے۔ فتنہ پلر فیملی تکافل کے شریعہ ایڈوائزر تمام طریقہ کار سرمایہ کاری کی منظوری فراہم کرتے ہیں۔

### کیا متوقع رقم میں عمرہ کے تمام اخراجات شامل ہیں؟

جی ہاں، متوقع رقم کا اندازہ عمرہ کے تمام اخراجات کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، جس میں ماسوائے قربانی کے ٹکٹ، ویزا اور قیام و طعام کے اخراجات شامل ہیں۔ بہرحال عمرہ کی حقیقی لاگت مختلف عناصر مثلا مہنگائی، ٹیکسز اور ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے تبدیل ہوسکتی ہے۔ فتنہ پلر ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے ہر سال عمرہ پیکیج کی لاگت کا اعلان کیا جائے گا اور اگر پی ایم ڈی کی تکمیلی مالیت اور عمرہ پیکیج کی لاگت میں فرق ہو تو یہ فرق شریک تکافل کو برداشت کرنا ہوگا۔

### What if I need funds before the completion of the term?

We offer Full and Partial withdrawals before the completion of the term. However, it is highly recommended that you continue with your plan, so that you may fulfil your dream of performing Umrah.

### Will I be able to perform Umrah if my maturity value is less or more than the Umrah package?

In case there is any difference/shortfall between Umrah package announced by 5th Pillar Travel and Maturity proceeds of the membership, it will be borne by the participant. However, If paid amount/accumulated cash value at Maturity is higher than the cost of Umrah, it will be the ownership of the participant.

### What if I am not able or seeking to perform Umrah at maturity?

In that case, you can withdraw the maturity value of the membership in cash.

### What if I want to perform Umrah before maturity?

You may be allowed to perform Umrah before maturity by utilizing our exclusive Umrah Facilitation Services provided you decide to pay shortfall amount, if any. You can also withdraw the cash value of your membership at any point during the membership.

### What if I want to perform Umrah with any other Umrah operator?

Yes, you can. However, in case you choose 5th Pillar Travel Pvt Ltd as your Umrah arrangements facilitator, you will have the facility to enjoy exclusive end-to-end Umrah Facilitation value chain services.

### What if the participant passes away before the maturity of membership?

In the event of death of participant before maturity, the nominee shall get the death benefit i.e., higher end of face value or cash value.

### What is 5th Pillar Travel Private Limited?

5th Pillar Travel Private Limited is an associated company of 5th Pillar Family Takaful Limited, which will facilitate the customers of 5th Pillar Family Takaful Limited in alliance with Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony (MoRA & IH) approved Hajj Group Organizers (HGOs) for complete value chain of Umrah related services.

### What if I have any other questions or concerns?

In case of any other queries, please feel free to contact us at [info@5thpillartakaful.com](mailto:info@5thpillartakaful.com) or call us at 021-111-786-573.

### رکنیت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے اگر مجھے فنڈز کی ضرورت ہو تو؟

رکنیت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم مکمل یا جزوی دستبرداری کا اختیار فراہم کرتے ہیں۔ بہر حال، آپ کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا پلان مسلسل جاری رکھیں تاکہ آپ اپنے عمرہ پر جانے کا خواب پورا کر سکیں۔

### اگر میری تکمیلی مالیت عمرہ پیکیج سے کم یا زیادہ ہو تو کیا میں عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟

اگر رکنیت کی تکمیلی مالیت اور فتنہ پلر ٹریول کی طرف سے اعلان کردہ عمرہ پیکیج کی لاگت میں فرق رہے ہو تو یہ فرق/کم شریک تکافل کو برداشت کرنا ہوگا۔ جبکہ تکمیل کے وقت اگر ادا کردہ رقم مجموعی نقد مالیت عمرہ کی لاگت سے زیادہ ہو تو یہ اضافی رقم شریک تکافل کی ملکیت ہوگی۔

### رکنیت کی تکمیل کے وقت اگر میں عمرہ کی ادائیگی کے قابل نہ رہوں یا نہ کرنا چاہوں؟

اس صورت میں آپ اپنی رکنیت کی تکمیلی مالیت نقد کی صورت میں وصول کر سکتے ہیں۔

### کیا میں رکنیت کی تکمیل سے پہلے عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟

رکنیت کی تکمیل سے پہلے بھی آپ ہماری طرف سے فراہم کردہ خصوصی عمرہ سہولت کی خدمات حاصل کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کے اخراجات میں کسی بھی قسم کی کمی آپ کو برداشت کرنی ہوگی۔ آپ کسی بھی وقت اپنی رکنیت کی نقد مالیت سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔

### کیا میں کسی اور عمرہ آپریٹر کی خدمات حاصل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ بہر حال، اگر آپ عمرہ انتظامات کے لیے فتنہ پلر ٹریول کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو آپ ہماری طرف سے مرتب کردہ آغاز سے اختتام تک عمرہ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

### رکنیت کی تکمیل سے پہلے اگر شریک تکافل کی وفات ہو جائے تو کیا ہوگا؟

رکنیت کی تکمیل سے پہلے شریک تکافل کی وفات کی صورت میں ان کے نامزد مستفید کو وفات کی صورت میں ملنے والے فوائد ادا کردے جائیں گے، یعنی مجموعی زرخفظ اور نقد مالیت میں سے جو زیادہ ہو۔

### فتنہ پلر ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ کا تعارف

فتنہ پلر ٹریول پرائیویٹ لمیٹڈ، فتنہ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ کی متعلقہ کمپنی ہے جو وزارت برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی (MoRA & IH) اور حج گروپ آرگنائزرز (HGOs) کے ساتھ مل کر فتنہ پلر فیملی تکافل لمیٹڈ کے صارفین کو عمرہ سے متعلق خدمات کا مکمل اور مرتب نظام پیش کرے گی۔

### اگر میرا کوئی اور سوال یا شکایت ہو تو کس سے رجوع کروں؟

مزید معلومات کی صورت میں ہم سے [info@5thpillartakaful.com](mailto:info@5thpillartakaful.com) پر رابطہ کریں یا 021-111-786-573 پر ہمیں کال کریں۔





5th Pillar  
Family Takaful Limited



فٲٲٲه ٲلر  
فلملى ٲكافل لمفٲڈ

آئى؁ سائٲه چلئ

 [www.5thpillartakaful.com](http://www.5thpillartakaful.com)

 021-111-786-573

